

Attempt questions

- 1 Why water is called universal solvent? 1
پانی کو یونیورسل سالوینٹ کیوں کہا جاتا ہے؟
- 2 Describe difference between concentrated solution and dilute solution. 2
کنسنٹرٹڈ اور ڈائلوٹڈ سولوشن میں فرق کریں۔
- 3 Define solution with example. 3
سولوشن کی مثال کے ساتھ تعریف کریں۔
- 4 What is meant by percentage mass/ volume? 4
پر سینٹیج ماس / والیوم سے کیا مراد ہے؟
- 5 What is meant by true solution? 5
حقیقی سولوشن سے کیا مراد ہے؟
- 6 Why suspensions and solutions do not show tyndall effect. Why colloids do? 6
سولوشن اور سپینشن ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے جبکہ کولائیڈ کرتے ہیں؟
- 7 Write two properties of suspensions. 7
سپینشن کی دو خصوصیات لکھیں۔
- 8 Define Molarity and write its equation. 8
مولیرٹی کی تعریف کریں اور اسکی مساوات لکھیں۔

Attempt questions

- 1 Differentiate between dilute and concentrated solutions with a common example. 1
ڈائلوٹڈ اور کنسنٹرٹڈ سولوشن کے درمیان ایک عام مثال کے ساتھ فرق کریں۔
- 2 What is general principle of solubility. 2
سولوبیلیٹی کا جنرل پرنسپل بیان کریں۔